

بچوں کی حفاظت اسکول واپسی کے لئے والدین کو کچھ ہدایات

(1)	روزانہ معمول کے ساتھ اپنے بچے کا باڈی ٹمپریچر چیک کریں اگر 37.5 سے زیادہ ہو اسے اسکول مت بھیجے۔
(2)	اگر اسکا گلہ خراب ہو یا پھر نزلہ، کھانسی، سر کا درد یا وومیٹینگ وغیرہ ہو یا صحت خراب ہو تو اسکول مت بھیجے۔
(3)	کھانا کھانے سے پہلے اور اسکے بعد اچھے سے ہاتھ دھونے کو کہیں
(4)	اپنے بچوں سے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بات کریں : -ہاتھوں بار بار اور اچھے سے دھونا - دوسرے بچوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں - فیس ماسک کا استعمال کرنا (6 سال سے کم عمر کے بچوں کے ضروری) -اپنی چیزیں اور کھلونے دوسرے بچوں کے ساتھ مت شیئر مت کریں
(5)	اپنے بچے کو اک ایکسٹرا ماسک دے کر اسکول بھیجیں۔ (6 سال سے کم بچوں کے لیے ضروری نہیں)
(6)	اگر آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہے جس کے لیے اسے اسکول میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے سرٹیفیکیٹ بنوائے جو آپ کو اسکول میں پیش کرنا ہے
(7)	اگر آپ کا بچہ کسی وجہ سے ماسک استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو بتا دیں کہ اس کے آس پاس کے لوگ ماسک پہن کے رکھیں گے
(8)	اسکول آنے سے پہلے اس کی ویب سائٹ پہ اچھے سے پڑ لے کہ اسکول میں کہاں سے کیسے اور کتنے بجے انٹری ہوگی
(9)	ٹائم کی پابندی کا خاص خیال رکھیں
(10)	اگر آپ کے بچے کو کوئی الیرجی وغیرہ ہے جس وجہ سے وہ اسکول نہیں آ سکتا تو آپ کو اس کے ڈاکٹر سے سرٹیفیکیٹ بنوانا پڑے گا۔